

Psa

Chapter 94

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אֱלֹ- خدا	נְקָמֹת انتقام-کا	יְהוָה یہوواہ	אֱלֹ خدا	נְקָמֹת انتقام-کا	הוֹפִיעַ: جلوہ-گر-ہو
	H0410	H5360	H3068	H0410	H5360	H3313

چمکا۔ نور اپنا خدا، والے لینے انتقام اے خدا! والے لینے انتقام اے رب، اے

2	הַנְּשֵׂא اُٹھ	שֵׁפֹט اے-منصف	הָאֲרֶץ زمین-کے	הַשָּׁב بدلہ-دے	עַל- پر	גֵּאִים: مغروروں-کو
	H5375	H8199	H0776	H7725	H1576	H1343

دے۔ سزا مناسب کی اعمال کے اُن کو مغروروں کو اُٹھ منصف، کے دنیا اے

3	עַד- تک	מָתִי کب	וְרַשְׁעִים شریر	יְהוָה یہوواہ	עַד- تک	מָתִי کب
	H5704	H4970	H7563	H3068	H5704	H4970

گے؟ لگائیں نعرے کے فتح تک کب باں تک، کب بے دین رب، اے

4	יְבִיעֹו وہ-بکتے-ہیں	יְדַבְּרוּ وہ-بولتے-ہیں	עֲתָק گستاخانہ-باتیں	יְחַמְּרוּ وہ-شیخی-مارتے-ہیں	כָּל- سب	פְּעָלִי بدکار	אָנוּ: بدی-کے
	H5042	H1696	H6277	H0559	H3605	H6466	H0205

ہیں۔ ربتے مارتے شیخی بدکار تمام ربتے، اُگلتے باتیں کی کفر وہ

5	עֲמֹנֶה تیری-قوم-کو	יְהוּדָה یہوواہ	יְדַבְּרוּ وہ-کچلتے-ہیں	וְנַחֲלָתָהּ اور-تیری-میراث-کو	יְעַנּוּ: وہ-دُکھ-دیتے-ہیں
	H3068	H1792	H5159	H5159	H5159

ہیں۔ رہے کر ظلم پر ملکیت موروثی تیری رہے، کچل کو قوم تیری وہ رب، اے

6	אֶלְמֶנָה بیوہ	וְגֵר اور-مسافر-کو	יְהָרוּ وہ-مار-ڈالتے-ہیں	וְיִתְּמוּ اور-یتیموں-کو	יְרַצְחוּ: وہ-قتل-کرتے-ہیں
	H0490	H1616	H2026	H3490	H7523

ہیں۔ رہے کر قتل کو یتیموں رہے، اُتار گھاٹ کے موت وہ کو اجنبیوں اور بیواؤں

7	וַיִּזְאֲמְרוּ اور-وہ-کہتے-ہیں	לֹא نہیں	יִרְאֶה- دیکھے-گا	יָהּ یاہ	וְלֹא- اور-نہیں	אֱלֹהֵי خدا	יַעֲקֹב: یعقوب-کا
	H0559	H3808	H7200	H3050	H3808	H0430	H3290

دیتا۔ [نہیں ہی دھیان خدا کا یعقوب آتا، نہیں نظر کو رب]۔ یہ ہیں، کہتے وہ

8	בִּינוּ سمجھو	בְּעֵינֵי اے-بے-عقلو	בְּעֵי قوم-میں	וְכִסְיָיִם اور-احمقو	מָתִי کب	תִּשְׁכִּילוּ: تم-سمجھو-گے
	H0995	H3684	H4970	H3684	H4970	H4970

گی؟ آئے سمجھ کب تمہیں احمقو، اے دو! دھیان نادانو، کے قوم اے

9	הַזֵּמֶע جس-نے-لگایا	אָז کان	הָלֵא کیا	וְשָׁמַע وہ-نہیں-سنتا	אִם- اگر	יֵצֵר جس-نے-بنائی	עֵינֵי آنکھ	הָלֵא کیا	יָבִישׁ: وہ-نہیں-دیکھتا
	H5193	H0241	H3808	H8085	H3335	H3335	H3808	H3808	H5027

دیکھتا؟ نہیں وہ کیا دیا تشکیل کو آنکھ نے جس سنتا؟ نہیں وہ کیا بنایا، کان نے جس

10	הַיָּסֵר	גוֹיִם	הַלֵּא	יּוֹכִיחַ	הַמְּלַמֵּד	אָדָם	דַּעַת:
	جو-تربیت-دیتا-ہے	قوموں-کو	کیا	وہ-نہیں-ڈانٹے-گا	جو-سکھاتا-ہے	انسان-کو	علم
	H3256		H3808	H3198	H3925	H0120	H1847

دیتا؟ نہیں سزا وہ کیا ہے دیتا تعلیم کو انسان اور کرتا تنبیہ کو اقوام جو

11	יְהוָה	יָדַע	מַחְשְׁבוֹת	אָדָם	כִּי	הַמָּה	הַבֵּל:
	یہوواہ	جانتا-ہے	خیالات	انسان-کے	کہ	وہ	بیکار-ہیں
	H3068	H3045	H4284	H0120		H1992	H1892

ہیں۔ہی کے بھر دم وہ کہ ہے جانتا وہ ہے، جانتا خیالات کے انسان رب

12	אֱשֶׁר־	הַנְּבִיר	אֲשֶׁר-	תִּסְרְנוּ	יָהּ	וּמְתוֹרַתְךָ	תִּלְמִדְנוּ:
	مبارک-ہے	وہ-آدمی	جس-کو	ٹو-تربیت-دیتا-ہے	یہ	اور-اپنی-شریعت-سے	ٹو-سکھاتا-ہے-اُسے
	H0835	H1397		H3256	H3050	H8451	H3925

ہے دیتا تعلیم کی شریعت اپنی ٹو جسے ہے، دیتا تربیت ٹو جسے وہ ہے مبارک رب، اے

13	לְהַשְׁקִיט	לֹא	מִיָּמִי	רָע	עַד	יִכְרָה	לְרָשָׁע	נְשַׁחַת:
	تاکہ-آرام-دے	اُسے	دنوں-سے	مصیبت-کے	جب-تک	کھودا-نہ-جائے	شریر-کے-لیے	گڑھا
	H8252		H3117		H5704		H7563	H7845

ہو۔نہ تیار گڑھا لئے کے یہ دینوں تک جب گزارے زندگی سے سکون تک وقت اُس اور پائے آرام سے دنوں کے مصیبت وہ تاکہ

14	וְכִי	לֹא-	יִטַּשׁ	יְהוָה	עִמּוֹ	וְנַחֲלָתוֹ	לֹא	יַעֲזֹב:
	کیونکہ	نہیں	چھوڑے-گا	یہوواہ	اپنی-قوم-کو	اور-اپنی-میراث-کو	نہیں	ترک-کرے-گا
	H3808	H5203	H3068			H5159	H3808	

گا۔کرے نہیں ترک کو ملکیت موروثی اپنی وہ گا، کرے نہیں رد کو قوم اپنی رب کیونکہ

15	כִּי-	עַד-	אָדָם	יָשׁוּב	מִשְׁפָּט	אֶחָדָיו	כָּל-	יִשְׂרָאֵל	לֵב:
	کیونکہ	تک	راستبازی	لوٹے-گا	عدالت	اور-اُس-کے-پیچھے	سب	سیدھے-دل-والے	دل-والے
	H5704	H6664	H7725	H4941		H3605		H3477	

گے۔کریں پیروی کی اُس دل دار دیانت تمام اور گے، ہوں مبنی پر انصاف دوبارہ فیصلے

16	מִי-	יָקוּם	לִי	עִם-	מְרַעִים	מִי-	יְתִיב	לִי	עִם-	פְּעָלִי	אָנוּ:
	کون	اُٹھے-گا	میرے-لیے	کے-خلاف	بدکاروں-کے	کون	کھڑا-ہو-گا	میرے-لیے	کے-خلاف	بدکاروں	بدی-کے
	H4310					H4310	H3320			H6466	H0205

گا؟کرے سامنا کا بدکاروں لئے میرے کون گا؟ کرے دفاع میرا سامنے کے شریروں کون

17	לֹא־	יְהוָה	עֲזָרְתָהּ	לִי	אֲכַמְלֵט	נְשַׁכְנָהּ	דוֹמְנָה	נַפְשִׁי:
	اگر-نہ-ہوتا	یہوواہ	میری-مدد	میرے-لیے	تقریباً	رہتی	خاموشی-میں	میری-جان
	H3884	H3068	H5833		H4592	H7931	H1745	H5315

بستی۔جا میں ملک کے خاموشی ہی جلد جان میری تو ہوتا نہ سہارا میرا رب اگر

18	אִם-	אָמַרְתִּי	מָטָה	רַגְלִי	חֶסְדְּךָ	יְהוָה	יִסְעֲדָנִי:
	جب	میں-نے-کہا	پھسل-گیا	میرا-پاؤں	تیری-شفقت	یہوواہ	مجھے-سنہالتی-ہے
		H0559	H4131	H7272	H3068		H5582

سنہالا۔مجھے نے شفقت تیری تو ہے لگا ڈگمگانے پاؤں میرا بولا، میں جب رب، اے

19	בְּרֵב	שָׂרְעֵפִי	בְּקִרְבִּי	אֲנַחְזִימִיד	יִשְׁעֵשְׁעוּ	נַפְשִׁי:
	کثرت-میں	میرے-فکروں-کی	میرے-اندر	تیری-تسلیمیاں	میری-جان-کو-خوش-کرتی-ہیں	میری-جان-کو
	H7230	H8312	H7130	H8575		H5315

کیا دم تازہ کو جان میری نے تسلیوں تیری تو لگے کرنے بے چین مجھے خیالات ناک تشویش جب

20
کیا-شراکت-بے-تجھ-سے
تخت
ظلم-کا
جو-بناتا-ہے
مصیبت
قانون-کے-ذریعے
قانون
H2266
H3678
H1942
H3335
H5999
H2706

نہیں! برگزے؟ کرتی ظلم سے فرمانوں اپنے جو حکومت ایسی ہے، سکتی ہو متحد ساتھ تیرے حکومت کی تباہی کیا اللہ، اے

21
وہ-جمع-ہوئے-ہیں
کے-خلاف
جان
صادق-کی
اور-خون
بے-گناہ
وہ-مجرم-ٹھہراتے-ہیں
H1413
H5315
H6662
H1818
H7561

ہیں۔ ٹھہراتے قاتل کو بے قصوروں اور جاتے مل میں آپس لئے کے لینے جان کی باز راست وہ

22
لیکن-ہوا-ہے
یہوواہ
میرے-لیے
اونچا-قلعہ
اور-میرا-خدا
چٹان
میری-پناہ-کی
H1961
H3068
H0430
H6697
H4268

ہے۔ ہوا ثابت چٹان کی پناہ میری خدا میرا اور ہے، گیا بن قلعہ میرا رب لیکن

23
اور-وہ-لوٹائے-گا
ان-پر
کو
ان-کی-بدی
اور-ان-کی-شرارت-سے
انہیں-نیست-کرے-گا
انہیں-نیست-کرے-گا
H7725
H0853
H0205
H6789
H6789

یہوواہ
ہمارا-خدا
H3068
H0430

گا۔ کرے نیست انہیں خدا ہمارا رب گا۔ کرے تباہ انہیں میں جواب کے حرکتوں شریر کی ان اور گا دے آنے واپس پر ان ناانصافی کی ان وہ